



اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ" (۱)
اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عفو و کرم کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے ذریعے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا شمار نہ میں کر سکتا تو ویسا ہی ہے، جیسا تو نہ خود اپنی تعریف کی ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں: مجھے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ میں ملے ڈھونڈنا شروع کیا، تو میرے ہاتھ آپ کے پیروں کے تلووں سے جا لگے آپ مسجد میں (سجد کی حالت میں) تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے آپ فرما رہے تھے: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ" (۱) اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے عفو و کرم کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے ذریعے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا شمار نہ میں کر سکتا تو ویسا ہی ہے، جیسا تو نہ خود اپنی تعریف کی ہے۔
 [صحیح] [رواہ مسلم]

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں سوئی ہوئی تھی کہ رات میں آپ بستر پر نہ میں ملے میں نے دونوں ہاتھوں سے حجرے کی اس جگہ کو ٹولا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو پایا کہ آپ سجد کی حالت میں ہیں، آپ کے دونوں قدم کھڑے ہیں اور کہتے ہیں: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ". یعنی اللہ! مجھے تیری رضا چاہیے میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر یا میری امت پر ناراض ہو جائے "وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ" میں تیرے عفو و کرم کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں "وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ". میں تیری صفات جمالی کے وسیلے سے تیری صفات جلالی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیوں کہ تجھ سے پناہ بس تو ہی دے سکتا ہے اللہ کے دربار کے علاوہ نہ کوئی بچ کر نکلنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ "لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ" میں ہزار کوشش کے باوجود تیری ان نعمتوں اور احسانات کو کما حقہ شمار نہ میں کر سکتا، جن سے تونہ مجھے نواز رکھا ہے "أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ" تو ویسا ہی ہے، جیسا تونہ اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا ہے تونہ اپنی تعریف اپنے شایان شان انداز میں کی ہے تیری تعریف کا حق دوسرا کوئی ادا کر نہیں سکتا۔



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

